

326594-زیر تعمیر اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے پیشگی ادا نیکی کا حکم اور اس سرمایہ کاری سے منافع لینے کا حکم۔

سوال

میں نے ایک رتیل اسٹیٹ کمپنی کو زیر تعمیر اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے پیشگی ادا نیکی کر دی ہے جو کہ مجھے دوسال کے بعد ملے گا، اور کمپنی رتیل اسٹیٹ یونٹ کی تعمیر کے دوران گاہک کی طرف سے ادا کی گئی ایڈوانس پیمنٹ پر مالی منافع ادا کرتی ہے، کیا میرے تعمیر ہونے والے مکان کی دیکھ بھال کے اخراجات کے طور پر کمپنی کو پیشگی ادا نیکی کرنا اور منافع وصول کرنا جائز ہے؟

پسندیدہ جواب

اول :

زیر تعمیر مکان خریدنے کا معاهدہ کرنا جائز ہے، اگر اس طرح بیان کیا جائے جس سے جالت ختم ہو اور تنازعات پیدا نہ ہوں، اور اسے عقد استصناع کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں مزید کے لیے آپ سوال نمبر: (136921) کا جواب ملاحظہ کریں۔

دوام :

عقد ہو جائے تو پیشگی ادا کیا گیا مال کمپنی کی ملکیت بن جائے گا؛ کیونکہ یہ مال خریدی گئی چیز کی قیمت کا حصہ ہے۔

اس بنا پر: اس رقم پر جو بھی فائدہ ہو گا وہ کمپنی کا ہو گا، اور کمپنی جی اس کی زکاۃ وغیرہ ادا کرے گی، اور اگر فرض کریا جائے کہ کمپنی اسے کسی سودی بینک میں رکھوادے گی تو پھر بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے؛ کیونکہ یہ رقم اب آپ کی ملکیت سے نکل چکی ہے۔

سوم :

اگر کمپنی آپ کو ایڈوانس ادا شدہ رقم کے منافع میں سے کچھ دیتی ہے تو آپ یہ منافع نہیں لے سکتے؛ کیونکہ مشروط منافع یا طے شدہ منافع ایڈوانس ادا شدہ رقم کی کیفیت کو مبهم بنادے گا۔
اکہ یہ آیا رقم قرض تھی یا سرمایہ کاری تھی، یا خریدی گئی چیز کی قیمت تھی۔ [ترجم]

شیع الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتاویٰ کبریٰ : (4/39) میں لکھتے ہیں:

"ایسے حیلوں سے روکنا ہی قطعی طور پر صحیح موقف ہے؛ کیونکہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (ایک ہی لین دین میں قرض اور فروختگی حلال نہیں ہے۔ ایک خریداری میں دو شرطیں جائز نہیں ہیں۔ جب تک ذمہ دار نہ بنے اس وقت تک منافع کا خدار نہیں ہو گا۔ اور جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کی بیع نہیں۔) اس حدیث کو پانچوں ائمہ کرام: امام احمد، ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ روایت حسن صحیح ہے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قرضہ فرائم کرتے ہوئے بیع کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اگر کوئی قرضہ فرائم کرتے ہوئے بیع کی جگہ: کرایہ داری کا معاملہ کرتا ہے تو یہ بھی قرضہ کے ساتھ بیع ہو گا یا اس جیسا شمار ہو گا۔

کوئی بھی عقد تبرع جس میں بیع اور کرایہ داری شامل ہو، مثلاً: بہبہ، عاریہ، عریہ، مساقاة اور مزارعہ وغیرہ میں طرفداری کرنا بھی قرض کی طرح ہی ہو گا۔

حدیث کے مضموم کا خلاصہ یہ ہے کہ : عقدِ معاوضہ اور عقدِ تبرع کو یکجا نہ کیا جائے؛ کیونکہ یہاں عقدِ تبرع؛ در حقیقت عقدِ معاوضہ کی وجہ سے ہے، عقدِ تبرع تنہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح عقدِ تبرع بھی عقدِ معاوضہ کا حصہ بن جائے گا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ عقدِ تبرع میں عوض نہیں ہوتا تو پھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ باع و مشتری نے دو مختلف چیزوں [عقدِ تبرع اور عقدِ معاوضہ] کو یکجا کر لیا ہے؛ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کو ایک ہزار درہم قرض دے، اور یہی قرض فراہم کنندہ 500 والی چیز قرض لینے والے کو 1000 میں فروخت کرے تو یہ دکاندار ایک ہزار قرض دینے کے لیے تبھی تیار ہوا ہے جب اس سے چیز انہتائی منگنے داموں گاہک نے خریدی ہے، اور یہ گاہک بھی اس چیز کو انہتائی منگنے داموں اسی لیے خرید رہا ہے کہ یہاں ہدف 1000 درہم کا قرض ہے۔ اس لیے یہاں بیچ صرف ہزار بھی کی نہیں ہو رہی نہ ہی صرف قرض دیا جا رہا ہے بلکہ یہاں تو اسے ہزار درہم اور 500 کی چیز 2000 درہم میں دی جا رہی ہے۔ "ختم شد"

چارم :

اگر آپ کا اس کمپنی سے معاملہ نہیں ہوا، صرف وعدہ ہی ہوا ہے، اور پیشگی ادا نیگی صرف اس لیے ہے کہ خریدار کی سنجیگی محتی ہو، تو پھر آپ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ سودی لین دین میں سرمایہ کاری کی جائے، اور اگر کمپنی کی جانب سے سودی سرمایہ کاری کرنے پر اصرار ہو تو بھی آپ ان کے ساتھ معاملہ نہ کریں؛ کیونکہ مال آپ کا ہے اور کمپنی آپ کی وکیل بن کر کام کرے گی تو اس طرح آپ کو بھی سودی لین دین کا گناہ پہنچے گا اگر کمپنی اسے سودی لین دین میں استعمال کرے گی۔

ان تفصیلات کے بعد، راجح موقف اور ہماری ویب سائٹ پر مفتی بہ قول یہ ہے کہ: خریداری کے محسن و معدے کے مرحلے میں "بیانہ" وصول کرنا جائز نہیں ہے۔

اس بارے میں مزید کے لیے آپ سوال نمبر: (229091) کا جواب ملاحظہ کریں۔

واللہ اعلم